



## سوال

چار سنتیں دودو کر کے پڑھیں

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا ظہر یا عصر کی چار سنت کو ایک سلام کے ساتھ ادا کرنا جائز ہے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «صلاة اللیل والنہار ثنی ثنی»

رات اور دن کی (نفل، سنت) نماز دو دو (رکعتیں) ہے۔ (سنن ابی داود: 1295 وسندہ حسن) اسے ابن خزیمہ (1210) ابن حبان (636) اور جمہور محدثین نے صحیح قرار دیا ہے۔ (دیکھئے میری کتاب نیل المقصود فی التعلیق علی سنن ابی داود ج 1 ص 371)

معرفۃ علوم الحدیث للحاکم (ص 57 ج 101) میں اس کی ایک مؤید روایت ہے جس کی سند حسن ہے۔ اس کے باوجود امام حاکم نے اسے "وہم" قرار دیا ہے۔!

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ "صلاة اللیل والنہار ثنی ثنی"

اور رات اور دن کی (نفل) نماز دو دو رکعتیں ہے۔ (السنن الکبریٰ للبیہقی ج 2 ص 487 وسندہ ولاء فیہ)

اس سے معلوم ہوا کہ سنن ابی داود والی حدیث سابق: صحیح لغیرہ ہے۔ اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ چار سنتیں دودو کر کے دو سلاموں کے ساتھ پڑھنی چاہیں۔

نافع تابعی سے روایت ہے کہ (سیدنا) عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دن کو چار چار رکعتیں (سنت) پڑھتے تھے (مصنف ابن ابی شیبہ ج 2 ص 274 ج 6634 وسندہ صحیح)

عبداللہ بن عمر العمری (صدوق حسن الحدیث عن نافع، ضعیف عن غیرہ) عن نافع کی سند سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رات کو دو دو رکعت اور دن کو چار رکعت (نوافل) پڑھتے تھے۔ پھر سلام پھیرتے تھے۔ (مصنف عبدالرزاق 2/501 ج 4225 واسنادہ حسن)

اس روایت کی دوسری سند سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحیح مغیرہ ہے۔ (دیکھئے مصنف عبدالرزاق ج 4226) امام ابن المنذر النیسابوری نے اسے "ثابت عن ابن عمر" یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت قرار دیا ہے۔ (اللاوسط 236/5)



تنبیہ: عبداللہ بن عمر العمری کی مصنف عبدالرزاق والی روایت الاوسط میں "انہربنا عبید اللہ بن عمر عن نافع ابن عمر" الح کی سند سے چھپی ہوئی ہے! اس اثر سے معلوم ہوا کہ ایک سلام سے چار سنتیں پڑھنا بھی جائز ہے۔

لیکن بہتر یہی ہے کہ مرفوع حدیث کی رو سے وتر کے علاوہ تمام سنتیں اور نوافل دو دو کر کے پڑھے جائیں۔

حسن بصری (تابعی) فرماتے ہیں: "صلوة النہار رکعتان رکعتان"

دن کی نماز دو دو رکعتیں ہے۔ (مسائل الامام احمد واسحاق بن راہویہ۔ روایہ اسحاق بن منصور الکویج 205/1 فقرہ: 433 وسندہ صحیح الاشعث ہوا بن عبد الملک الحرانی)

امام احمد بن حنبل دن کی نفل نماز دو دو کر کے پڑھتے تھے۔ (ایضاً فقرہ: 405)

حدامہ عذی واللہ اعلم بالصواب

## فتاویٰ علمیہ (توضیح الاحکام)

ج 1 ص 424

محدث فتویٰ